

PRESS RELEASE

For immediate release

May 22, 2024

کمشنر ایس ای سی پی مجتبیٰ لودھی نے نان بینکنگ فنانس اور مضاربہ سیکٹر کی سالانہ رپورٹ جاری

کراچی، 22 مئی: سکیورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان کے کمشنر، سپیشلائزڈ کمپنیز ڈویژن، مجتبیٰ احمد لودھی نے نان بینکنگ فنانشل کمپنیوں اینڈ مضاربہ ایسوسی ایشن کی سالانہ رپورٹ کی رونمائی کی۔ ایسی سی ائیشن کی سالانہ رپورٹ میں نان بینکنگ فنانس اور مضاربہ کے شعبے بارے اہم ڈیٹا اور معلومات فراہم کی گئیں ہیں۔ سالانہ رپورٹ کی تقریب رونمائی میں مالیاتی شعبے کے نمائندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔

رپورٹ کے مطابق درپیش معاشی چیلنجوں کے باوجود نان بینکنگ اور مضاربہ کے شعبے نے، خاص طور پر اثاثوں، منافع، منافع کی تقسیم اور ٹیکس کی ادائیگیوں کے حوالے سے نمایاں بہتری دکھائی دی ہے۔ اس شعبے کے اثاثے مالی سال 2023 میں بڑھ کر 158,404 ملین روپے ہو گئے جبکہ گزشتہ مالی سال سیکٹر کے مجموعی اثاثے 142,918 ملین روپے تھے۔ تاہم، مالی سال 2022 کے مقابلے میں اس سال سیکٹر کی کل ایکویٹی 55,358 ملین روپے سے کم ہو کر 51,518 ملین روپے / ایکویٹی ہو گئی ہے۔ تاہم، ایکویٹی میں کمی کے باوجود، مالی سال 2023 میں اس شعبے کا مجموعی منافع 3,431 ملین روپے تک پہنچ گیا جبکہ مالی سال 2022 میں یہ 2,445 ملین روپے تھا۔

کمشنر ایس ای سی پی مجتبیٰ لودھی نے پاکستان میں مالیاتی شمولیت کو مؤثر طریقے سے فروغ دینے کے لیے نان بینکنگ کمپنیوں اور مضاربہ کا دائرہ بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے مارکیٹ شرکاء پر زور دیا کہ وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صارفین کو بہترین مالی مصنوعات اور سروسز فراہم کریں۔ مزید برآں، انہوں نے پاکستان میں ٹیکنالوجی سے چلنے والے پلیٹ فارمز اور اسلامی مالیاتی خدمات کی زیادہ مانگ کا حوالہ دیتے ہوئے نان بینکنگ مالیاتی کمپنیوں اور مضاربہ کو تجویز کیا کہ وہ دور دراز آبادی کے طبقات تک رسائی کے لیے ٹیکنالوجی پر مبنی فنٹیک کاروباری ماڈلز اپنائیں۔

قبل ازیں، چیئرمین، نان بینکنگ اینڈ مضاربہ ایسوسی ایشن آف پاکستان کے چیئرمین محمد شعیب ابراہیم نے شرکاء کا خیر مقدم کیا اور سیکٹر کی سالانہ رپورٹ سے اہم معلومات سنیں۔ تقریب میں زیر جائزہ مالی سال کے دوران غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی کمپنیوں اور مضاربہ ممبران میں کارکردگی پر ایوارڈز تقسیم کیے گئے۔

